

برائے فوری اجراء

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں نئے عوامی مقامات بنائے جا رہے ہیں

برامپٹن، (4 ستمبر 2020) - صرف لانگ ویک اینڈ کے دوران - سٹی آف برامپٹن، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپرومنٹ ایریا کے اشتراک کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن میں رہائشیوں اور سیاحوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دو نئے پارکلیٹس (چھوٹے پارکس) کا بندوبست کیا ہے۔

جسمانی فاصلہ بندی اور حفاظتی اقدامات کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹی نے پارکنگ کی تین چھوٹی جگہوں کو سبزہ سے بھرپور عوامی نشست گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے جہاں پر شہری محفوظ طریقے سے سماجی میل جول کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دو پارکلیٹس 38 اور 40 مین اسٹریٹ نارٹھ اور 64 مین اسٹریٹ نارٹھ (ویوین لین کے سامنے) واقع ہیں۔

یہ ڈھانچے 1 نومبر تک اپنی جگہ پر موجود رہیں گے۔

برامپٹن کے مقامی کاروباروں کی معاونت

کورونا وائرس (کووڈ-19) نے مقامی کاروباروں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور انہیں اس وقت پہلی کبھی سے زیادہ برامپٹن کی کمیونٹی کی معاونت درکار ہے۔ مئی کے مہینے میں، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کی معاشی بحالی کی حکمت عملی کو منظور کیا، جس میں چھوٹے کاروباروں، ریسٹورینٹس اور سیاحت کی مدد کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ سٹی نے آج تک کئی نئی ترغیبات کا آغاز کر دیا ہے، بشمول سپورٹ لوکل برامپٹن مہم اور پیٹیو برامپٹن پروگرام۔ شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خریداری، کھانے پینے اور تحائف کے لیے وہ مقامی کاروباروں سے رجوع کریں۔

اقتباسات

"کووڈ-19 کے خلاف ہمارے شہر کی جانب سے پورے ردعمل کے دوران ہم نے اپنے پروگراموں، سروسز اور مقامات کو اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی معاونت کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ پیٹیوز کی گنجائش میں توسیع سے لے کر ان نئے پارکلیٹس تک، ہم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے برامپٹن کی پیش کردہ خدمات سے لطف اندوز ہونے کے لیے محفوظ طریقے تلاش کیے ہیں۔ ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کی یہ دو نئی جگہیں صرف لانگ ویک اینڈ کے لیے فراہم کی گئی ہیں اور میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ان سے محفوظ طریقے سے لطف اٹھائیں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اس پروجیکٹ میں شراکت داری کرنے کے لیے برامپٹن BIA کا بہت شکریہ۔ یہ نئے پارکلیٹس ہمارے شہر کے مقامی کاروباروں میں تشریف لانے والے رہائشیوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے نئی اور محفوظ عوامی جگہیں فراہم کر کے ہمارے شہر کی دوبارہ کھلنے اور بحالی کی حکمت عملی میں معاون ثابت ہوں گے۔"

- مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ؛ لیڈ، میئر ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی آف برامپٹن

"اس ویاء کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملازمین، رہائشی اور کاروباری ادارے کتنے زیادہ پر عزم، اختراعی اور نگہداشت کنندگان ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی معاونت اور ہماری اجتماعی بحالی کے ضمن میں اپنے بھرپور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ پائلٹ پروگرام اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پارکلیٹس ہمارے شہر کی شان میں اضافہ کر رہے ہیں۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"یہ نئے پارکلیٹس ہماری مسلسل وابستگی اور رہائشیوں، کاروباری اداروں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہمارے قریبی اشتراک عمل کا براہ راست نتیجہ ہیں تاکہ ہمارے شہر کی مکمل بحالی کو محفوظ اور معنی خیز انداز میں مدد فراہم کر سکیں۔ میں ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن

BIA کے اپنے شراکت داروں اور سٹی کی اپنی ٹیم کا مخلصانہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے رہائشیوں اور سیاحوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے ان جگہوں کو بنایا ہے۔"

- ٹیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA نے سٹی آف برامپٹن کے شہری اربن ڈیزائن گروپ کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں بحالی کے بہت سارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور ہمیں یہ دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مین اسٹریٹ نارٹھ پر عوامی مفاد کے پیش نظر پائلٹ پارکلیٹس پروگرام کو فعال بنا دیا گیا ہے۔"

- سوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا (BIA)

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca